

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION

صحت و تعلیم جسمانی

TIME ALLOWED: 1.45 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 48

کل نمبر = 48

نوٹ: جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 2- کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- Write the two qualities of a good player. (i) اچھے کھلاڑی کے دو اوصاف تحریر کیجیے۔
- What is meant by recreational and small area games? (ii) تفریحی اور چھوٹے رقبے کے کھیل سے کیا مراد ہے؟
- What is posture? (iii) قامت کسے کہتے ہیں؟
- What is meant by shooting circle? (iv) شوٹنگ سرکل سے کیا مراد ہے؟
- Explain penalty corner. (v) پینالٹی کارنر کی وضاحت کریں۔
- Write down the two skills of hockey game. (vi) ہاکی کھیل کی دو مہارتیں تحریر کیجیے۔
- Explain penalty stroke. (vii) پینالٹی سٹروک کی وضاحت کریں۔
- How can muscles' strength be increased? (viii) عضلاتی قوت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟

3. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 3- کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- Write down two fouls of Table Tennis. (i) ٹیبل ٹینس کھیل کے دو فاولز تحریر کیجیے۔
- Write down two skills of Table Tennis. (ii) ٹیبل ٹینس کی دو مہارتیں تحریر کیجیے۔
- Write down two rules for Discus Throw competition. (iii) ڈسکس تھرو کے مقابلے کے دو ضابطے تحریر کیجیے۔
- Write down two rules for long jump competition. (iv) لمبی چھلانگ کے مقابلے کے دو قوانین تحریر کیجیے۔
- Write down the skills of long jump. (v) لمبی چھلانگ کی مہارتیں تحریر کیجیے۔
- Write down two fouls that take place during the relay race. (vi) ریلے ریس کے دوران ہونے والے دو فاولز تحریر کریں۔
- Write down two rules of relay race. (vii) ڈاک دوڑ کے دو قوانین تحریر کیجیے۔

4. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 4- کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- Define recreation. (i) تفریح کی تعریف کریں۔
- Describe baton in relay race. (ii) ڈاک دوڑ میں بیٹن کی وضاحت کریں۔
- What is meant by camping? (iii) کیمپنگ سے کیا مراد ہے؟
- Write down the safety measures of infectious diseases. (iv) متعدی امراض سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر تحریر کیجیے۔
- Write two natural ways to clean the air. (v) ہوا صاف کرنے کے دو قدرتی طریقے تحریر کیجیے۔
- Define diet. (vi) غذا کی تعریف کیجیے۔
- Define two objectives of camping. (vii) کیمپنگ کے دو مقاصد تحریر کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions.

18 = 9 x 2

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

- Write detailed note on home, school and community health. 5- گھر، سکول اور معاشرے کی صحت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔
- Write down the disadvantages of Food Adulteration. 6- کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کے نقصانات تحریر کیجیے۔
- Draw and explain the circle of discus throw. 7- ڈسکس تھرو کا دائرہ بنائیں اور وضاحت کریں۔

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION

صحت و تعلیم جسمانی

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر مرحلہ نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) Human bones grow up to _____ years. (1) انسانی ہڈیوں کی افزائش _____ سال تک ہوتی ہے۔
(A) 18 (B) 16 (C) 12 (D) 25
- (2) Recreational and small area games are: (2) تفریحی اور چھوٹے رقبے کے کھیل ہیں۔
(A) Table Tennis ٹیبل ٹینس (B) Badminton بیڈمنٹن (C) Chase game تعاقب کا کھیل (D) Basketball بال باسکٹ
- (3) The inner diameter of a Discus Throw is: (3) ڈسکس تھرو کے دائرے کا اندرونی قطر ہے۔
(A) 2.40 m میٹر (B) 2.00 m میٹر (C) 2.60 m میٹر (D) 2.50 m میٹر
- (4) The length of the pitch in long jump is: (4) لمبی چھلانگ کے اکھاڑے کی لمبائی ہے۔
(A) 15 m میٹر (B) 20 m میٹر (C) 10 m میٹر (D) 8 m میٹر
- (5) Athlete is allowed to run: (5) ایتھلیٹ کو دوڑنے کے لیے راہداری دی جاتی ہے۔
(A) Alphabetically الفبا بتائی گئی (B) From the order to reach the player کھلاڑی کے پہنچنے کی ترتیب سے (C) By draw قرعہ اندازی سے (D) By the will of officials آفیشلز کی مرضی سے
- (6) The ways to clean the air are: (6) ہوا کو صاف کرنے کے طریقے ہیں۔
(A) Two دو (B) Four چار (C) Five پانچ (D) Three تین

(FOR BOYS ONLY)

(صرف لڑکوں کے لئے)

- (7) The width of hockey ground is: (7) ہاکی کے کھیل کے میدان کی چوڑائی ہے۔
(A) 50 m میٹر (B) 52 m میٹر (C) 55 m میٹر (D) 56 m میٹر
- (8) The height of the table in table tennis is: (8) ٹیبل ٹینس میز کی اونچائی ہوتی ہے۔
(A) 75 cms سینٹی میٹر (B) 74 cms سینٹی میٹر (C) 76 cms سینٹی میٹر (D) 80 cms سینٹی میٹر
- (9) The ways to catch the discus are: (9) ڈسکس پکڑنے کے طریقے ہیں۔
(A) Four چار (B) Three تین (C) Five پانچ (D) Two دو
- (10) The length of the runway for long jump is: (10) لمبی چھلانگ میں دوڑنے کے راستے کی لمبائی ہوتی ہے۔
(A) 40 m میٹر (B) 50 m میٹر (C) 30 m میٹر (D) 45 m میٹر
- (11) Number of team players in 4 x 100m relay race are: (11) 4 x 100 میٹر ڈاک دوڑ کی ایک ٹیم میں کھلاڑی ہوتے ہیں۔
(A) Six چھ (B) Eight آٹھ (C) Four چار (D) Five پانچ
- (12) The area for changing the baton in relay race is: (12) ڈاک دوڑ میں بیٹن کی تبدیلی کا علاقہ ہوتا ہے۔
(A) 10 m میٹر (B) 15 m میٹر (C) 30 m میٹر (D) 20 m میٹر

(FOR GIRLS ONLY)

(صرف لڑکیوں کے لئے)

- (7) The width of the table of table tennis is: (7) ٹیبل ٹینس میز کی چوڑائی ہوتی ہے۔
(A) 1.60 m میٹر (B) 1.50 m میٹر (C) 1.52 m میٹر (D) 1.62 m میٹر
- (8) The width of net in table tennis is: (8) ٹیبل ٹینس نیٹ کی چوڑائی ہوتی ہے۔
(A) 20 cms سینٹی میٹر (B) 13 cms سینٹی میٹر (C) 15.2 cms سینٹی میٹر (D) 16.30 cms سینٹی میٹر
- (9) The width of long jump runway is: (9) لمبی چھلانگ کے دوڑنے کے راستے کی چوڑائی ہوتی ہے۔
(A) 2.50 m میٹر (B) 3.10 m میٹر (C) 1.80 m میٹر (D) 1.22 m میٹر
- (10) Hiking refers to: (10) ہائیکنگ سے مراد ہے۔
(A) Hiking on the mountains پہاڑوں پر پیڈل سفر کرنا (B) To entertain تفریح کرنا (C) To take exercise ورزش کرنا (D) To view نظارے کرنا
- (11) Diseases that are transmitted from one to another person from different sources are: (11) وہ بیماریاں جو ایک سے دوسرے شخص تک مختلف ذرائع سے منتقل ہوتی ہیں۔
(A) Infectious diseases متعدی امراض (B) Dangerous diseases خطرناک امراض (C) Common diseases عام امراض (D) Heart diseases دل کے امراض
- (12) The constituents of food are: (12) غذا کے اجزاء ہیں۔
(A) Two دو (B) Four چار (C) Three تین (D) Six چھ

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION

صحت و تعلیم جسمانی

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) The length of the pitch in long jump is: لمبی چھلانگ کے اکھاڑے کی لمبائی ہے۔ (1)

(A) 15 m میٹرز	(B) 20 m میٹرز	(C) 10 m میٹرز	(D) 8 m میٹرز
----------------	----------------	----------------	---------------
- (2) Athlete is allowed to run: آٹھلیٹ کو دوڑنے کے لیے راہداری دی جاتی ہے۔ (2)

(A) Alphabetically الفبا بشکلی	(B) From the order to reach the player کھلاڑی کے پہنچنے کی ترتیب سے
(C) By draw قرعہ اندازی سے	(D) By the will of officials آفیشلز کی مرضی سے
- (3) The ways to clean the air are: ہوا کو صاف کرنے کے طریقے ہیں۔ (3)

(A) Two دو	(B) Four چار	(C) Five پانچ	(D) Three تین
------------	--------------	---------------	---------------
- (4) Human bones grow up to _____ years. انسانی ہڈیوں کی افزائش _____ سال تک ہوتی ہے۔ (4)

(A) 18	(B) 16	(C) 12	(D) 25
--------	--------	--------	--------
- (5) Recreational and small area games are: تفریحی اور چھوٹے رقبے کے کھیل ہیں۔ (5)

(A) Table Tennis ٹیبل ٹینس	(B) Badminton بیڈمنٹن	(C) Chase game تعاقب کا کھیل	(D) Basketball بال باسکٹ
----------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------
- (6) The inner diameter of a Discus Throw is: ڈسکس تھرو کے دائرے کا اندرونی قطر ہے۔ (6)

(A) 2.40 m میٹرز	(B) 2.00 m میٹرز	(C) 2.60 m میٹرز	(D) 2.50 m میٹرز
------------------	------------------	------------------	------------------

(FOR BOYS ONLY)

(صرف لڑکوں کے لئے)

- (7) Number of team players in 4 x 100m relay race are: 100 x 4 میٹرز ڈاک دوڑ کی ایک ٹیم میں کھلاڑی ہوتے ہیں۔ (7)

(A) Six چھ	(B) Eight آٹھ	(C) Four چار	(D) Five پانچ
------------	---------------	--------------	---------------
- (8) The area for changing the baton in relay race is: ڈاک دوڑ میں بیٹن کی تبدیلی کا علاقہ ہوتا ہے۔ (8)

(A) 10 m میٹرز	(B) 15 m میٹرز	(C) 30 m میٹرز	(D) 20 m میٹرز
----------------	----------------	----------------	----------------
- (9) The width of hockey ground is: ہاکی کے کھیل کے میدان کی چوڑائی ہے۔ (9)

(A) 50 m میٹرز	(B) 52 m میٹرز	(C) 55 m میٹرز	(D) 56 m میٹرز
----------------	----------------	----------------	----------------
- (10) The height of the table in table tennis is: ٹیبل ٹینس میز کی اونچائی ہوتی ہے۔ (10)

(A) 75 cms سینٹی میٹرز	(B) 74 cms سینٹی میٹرز	(C) 76 cms سینٹی میٹرز	(D) 80 cms سینٹی میٹرز
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------
- (11) The ways to catch the discus are: ڈسکس پکڑنے کے طریقے ہیں۔ (11)

(A) Four چار	(B) Three تین	(C) Five پانچ	(D) Two دو
--------------	---------------	---------------	------------
- (12) The length of the runway for long jump is: لمبی چھلانگ میں دوڑنے کے راستے کی لمبائی ہوتی ہے۔ (12)

(A) 40 m میٹرز	(B) 50 m میٹرز	(C) 30 m میٹرز	(D) 45 m میٹرز
----------------	----------------	----------------	----------------

(FOR GIRLS ONLY)

(صرف لڑکیوں کے لئے)

- (7) Diseases that are transmitted from one to another person from different sources are: وہ بیماریاں جو ایک سے دوسرے شخص تک مختلف ذرائع سے منتقل ہوتی ہیں۔ (7)

(A) Infectious diseases متعدی امراض	(B) Dangerous diseases خطرناک امراض	(C) Common diseases عام امراض	(D) Heart diseases دل کے امراض
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------
- (8) The constituents of food are: غذا کے اجزاء ہیں۔ (8)

(A) Two دو	(B) Four چار	(C) Three تین	(D) Six چھ
------------	--------------	---------------	------------
- (9) The width of the table of table tennis is: ٹیبل ٹینس میز کی چوڑائی ہوتی ہے۔ (9)

(A) 1.60 m میٹرز	(B) 1.50 m میٹرز	(C) 1.52 m میٹرز	(D) 1.62 m میٹرز
------------------	------------------	------------------	------------------
- (10) The width of net in table tennis is: ٹیبل ٹینس نیٹ کی چوڑائی ہوتی ہے۔ (10)

(A) 20 cms سینٹی میٹرز	(B) 13 cms سینٹی میٹرز	(C) 15.2 cms سینٹی میٹرز	(D) 16.30 cms سینٹی میٹرز
------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------
- (11) The width of long jump runway is: لمبی چھلانگ کے دوڑنے کے راستے کی چوڑائی ہوتی ہے۔ (11)

(A) 2.50 m میٹرز	(B) 3.10 m میٹرز	(C) 1.80 m میٹرز	(D) 1.22 m میٹرز
------------------	------------------	------------------	------------------
- (12) Hiking refers to: ہائیکنگ سے مراد ہے۔ (12)

(A) Hiking on the mountains پہاڑوں پر پیدل سفر کرنا	(B) To entertain تفریح کرنا
(C) To take exercise ورزش کرنا	(D) To view نظارے کرنا

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION

صحت و تعلیم جسمانی

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1

- (1) The inner diameter of a Discus Throw is: ڈسکس تھرو کے دائرے کا اندرونی قطر ہے۔ (A) 2.40 m میٹر (B) 2.00 m میٹر (C) 2.60 m میٹر (D) 2.50 m میٹر
 - (2) The length of the pitch in long jump is: لمبی چھلانگ کے اکھاڑے کی لمبائی ہے۔ (A) 15 m میٹر (B) 20 m میٹر (C) 10 m میٹر (D) 8 m میٹر
 - (3) Athlete is allowed to run: آٹھلیٹ کو دوڑنے کے لیے راہداری دی جاتی ہے۔ (A) Alphabetically الفبا بشکلی (B) From the order to reach the player کھلاڑی کے پہنچنے کی ترتیب سے (C) By draw قرعہ اندازی سے (D) By the will of officials آفیشلوں کی مرضی سے
 - (4) The ways to clean the air are: ہوا کو صاف کرنے کے طریقے ہیں۔ (A) Two دو (B) Four چار (C) Five پانچ (D) Three تین
 - (5) Human bones grow up to _____ years. انسانی ہڈیوں کی افزائش _____ سال تک ہوتی ہے۔ (A) 18 (B) 16 (C) 12 (D) 25
 - (6) Recreational and small area games are: تفریحی اور چھوٹے رقبے کے کھیل ہیں۔ (A) Table Tennis ٹیبل ٹینس (B) Badminton بیڈمنٹن (C) Chase game تعاقب کا کھیل (D) Basketball بال باسکٹ
- (FOR BOYS ONLY)** (صرف لڑکوں کے لئے)
- (7) The ways to catch the discus are: ڈسکس پکڑنے کے طریقے ہیں۔ (A) Four چار (B) Three تین (C) Five پانچ (D) Two دو
 - (8) The length of the runway for long jump is: لمبی چھلانگ میں دوڑنے کے راستے کی لمبائی ہوتی ہے۔ (A) 40 m میٹر (B) 50 m میٹر (C) 30 m میٹر (D) 45 m میٹر
 - (9) Number of team players in 4 x 100m relay race are: 100 x 4 میٹرز ڈاک دوڑ کی ایک ٹیم میں کھلاڑی ہوتے ہیں۔ (A) Six چھ (B) Eight آٹھ (C) Four چار (D) Five پانچ
 - (10) The area for changing the baton in relay race is: ڈاک دوڑ میں بیٹن کی تبدیلی کا علاقہ ہوتا ہے۔ (A) 10 m میٹر (B) 15 m میٹر (C) 30 m میٹر (D) 20 m میٹر
 - (11) The width of hockey ground is: ہاکی کے کھیل کے میدان کی چوڑائی ہے۔ (A) 50 m میٹر (B) 52 m میٹر (C) 55 m میٹر (D) 56 m میٹر
 - (12) The height of the table in table tennis is: ٹیبل ٹینس میز کی اونچائی ہوتی ہے۔ (A) 75 cms سینٹی میٹر (B) 74 cms سینٹی میٹر (C) 76 cms سینٹی میٹر (D) 80 cms سینٹی میٹر
- (FOR GIRLS ONLY)** (صرف لڑکیوں کے لئے)
- (7) The width of long jump runway is: لمبی چھلانگ کے دوڑنے کے راستے کی چوڑائی ہوتی ہے۔ (A) 2.50 m میٹر (B) 3.10 m میٹر (C) 1.80 m میٹر (D) 1.22 m میٹر
 - (8) Hiking refers to: ہائیکنگ سے مراد ہے۔ (A) Hiking on the mountains پہاڑوں پر پیدل سفر کرنا (B) To entertain تفریح کرنا (C) To take exercise ورزش کرنا (D) To view نظارے کرنا
 - (9) Diseases that are transmitted from one to another person from different sources are: وہ بیماریاں جو ایک سے دوسرے شخص تک مختلف ذرائع سے منتقل ہوتی ہیں۔ (A) Infectious diseases متعدی امراض (B) Dangerous diseases خطرناک امراض (C) Common diseases عام امراض (D) Heart diseases دل کے امراض
 - (10) The constituents of food are: غذا کے اجزاء ہیں۔ (A) Two دو (B) Four چار (C) Three تین (D) Six چھ
 - (11) The width of the table of table tennis is: ٹیبل ٹینس میز کی چوڑائی ہوتی ہے۔ (A) 1.60 m میٹر (B) 1.50 m میٹر (C) 1.52 m میٹر (D) 1.62 m میٹر
 - (12) The width of net in table tennis is: ٹیبل ٹینس نیٹ کی چوڑائی ہوتی ہے۔ (A) 20 cms سینٹی میٹر (B) 13 cms سینٹی میٹر (C) 15.2 cms سینٹی میٹر (D) 16.30 cms سینٹی میٹر

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کر یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) Recreational and small area games are: (1) تفریحی اور چھوٹے رقبے کے کھیل ہیں۔
(A) Table Tennis ٹیبل ٹینس (B) Badminton بیڈمنٹن (C) Chase game تعاقب کا کھیل (D) Basketball بال باسکٹ
- (2) The inner diameter of a Discus Throw is: (2) ڈسکس تھرو کے دائرے کا اندرونی قطر ہے۔
(A) 2.40 m میٹر (B) 2.00 m میٹر (C) 2.60 m میٹر (D) 2.50 m میٹر
- (3) The length of the pitch in long jump is: (3) لمبی چھلانگ کے اکھاڑے کی لمبائی ہے۔
(A) 15 m میٹر (B) 20 m میٹر (C) 10 m میٹر (D) 8 m میٹر
- (4) Athlete is allowed to run: (4) ایتھلیٹ کو دوڑنے کے لیے راہداری دی جاتی ہے۔
(A) Alphabetically الفباؤٹکلی (B) From the order to reach the player کھلاڑی کے پہنچنے کی ترتیب سے
(C) By draw قمر اندازی سے (D) By the will of officials آفیشلر کی مرضی سے
- (5) The ways to clean the air are: (5) ہوا کو صاف کرنے کے طریقے ہیں۔
(A) Two دو (B) Four چار (C) Five پانچ (D) Three تین
- (6) Human bones grow up to _____ years. (6) انسانی ہڈیوں کی افزائش _____ سال تک ہوتی ہے۔
(A) 18 (B) 16 (C) 12 (D) 25
- (7) The height of the table in table tennis is: (7) ٹیبل ٹینس میز کی اونچائی ہوتی ہے۔
(A) 75 cms سینٹی میٹر (B) 74 cms سینٹی میٹر (C) 76 cms سینٹی میٹر (D) 80 cms سینٹی میٹر
- (8) The ways to catch the discus are: (8) ڈسکس پکڑنے کے طریقے ہیں۔
(A) Four چار (B) Three تین (C) Five پانچ (D) Two دو
- (9) The length of the runway for long jump is: (9) لمبی چھلانگ میں دوڑنے کے راستے کی لمبائی ہوتی ہے۔
(A) 40 m میٹر (B) 50 m میٹر (C) 30 m میٹر (D) 45 m میٹر
- (10) Number of team players in 4 x 100m relay race are: (10) 4 x 100 میٹر ڈاک دوڑ کی ایک ٹیم میں کھلاڑی ہوتے ہیں۔
(A) Six چھ (B) Eight آٹھ (C) Four چار (D) Five پانچ
- (11) The area for changing the baton in relay race is: (11) ڈاک دوڑ میں بیٹن کی تبدیلی کا علاقہ ہوتا ہے۔
(A) 10 m میٹر (B) 15 m میٹر (C) 30 m میٹر (D) 20 m میٹر
- (12) The width of hockey ground is: (12) ہاکی کے کھیل کے میدان کی چوڑائی ہے۔
(A) 50 m میٹر (B) 52 m میٹر (C) 55 m میٹر (D) 56 m میٹر
- (7) The width of net in table tennis is: (7) ٹیبل ٹینس نیٹ کی چوڑائی ہوتی ہے۔
(A) 20 cms سینٹی میٹر (B) 13 cms سینٹی میٹر (C) 15.2 cms سینٹی میٹر (D) 16.30 cms سینٹی میٹر
- (8) The width of long jump runway is: (8) لمبی چھلانگ کے دوڑنے کے راستے کی چوڑائی ہوتی ہے۔
(A) 2.50 m میٹر (B) 3.10 m میٹر (C) 1.80 m میٹر (D) 1.22 m میٹر
- (9) Hiking refers to: (9) ہائیکنگ سے مراد ہے۔
(A) Hiking on the mountains پہاڑوں پر پیدل سفر کرنا (B) To entertain تفریح کرنا
(C) To take exercise ورزش کرنا (D) To view نظارے کرنا
- (10) Diseases that are transmitted from one to another person from different sources are: (10) وہ بیماریاں جو ایک سے دوسرے شخص تک مختلف ذرائع سے منتقل ہوتی ہیں۔
(A) Infectious diseases متعدی امراض (B) Dangerous diseases خطرناک امراض (C) Common diseases عام امراض (D) Heart diseases دل کے امراض
- (11) The constituents of food are: (11) غذا کے اجزاء ہیں۔
(A) Two دو (B) Four چار (C) Three تین (D) Six چھ
- (12) The width of the table of table tennis is: (12) ٹیبل ٹینس میز کی چوڑائی ہوتی ہے۔
(A) 1.60 m میٹر (B) 1.50 m میٹر (C) 1.52 m میٹر (D) 1.62 m میٹر

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: Health & Physical Edu Session: 2022 (Annual)

Q.Nos	Paper Code 3421	Paper Code 3423	Paper Code 3425	Paper Code 3427
1	A	C	D	C
2	C	C	C	D
3	D	A	C	C
4	C	A	A	C
5	C	C	A	A
6	A	D	C	A
7	C For Boys	A For Boys	D For Boys	C For Boys
8	C	D	A	D
9	D	C	A	A
10	A	C	D	A
11	A	D	C	D
12	D	A	C	C
13	C For Girls	A For Girls	D For Girls	C For Girls
14	8 C	D	A	D
15	9 D	C	A	A
16	10 A	C	D	A
17	11 A	D	C	D
18	12 D	A	C	C
19	/	/	/	/
20	/	/	/	/

مرثیہ کیلٹ بابت صحیح سوالیہ پرچہ مارکنگ Key

ہم نے مضمون صحت و تعلیم جسمانی پرچہ صحت و تعلیم جسمانی گروپ _____ میٹرک سالانہ امتحان 2022ء کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کر لیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: _____

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	KHAID MEHMOOD	SST	Govt. Model H/s Gulistan	03007359108	<i>[Signature]</i>
2	KHAZIA RAY			03057830221	<i>[Signature]</i>
3					
4					